

usage instructions inside

Infrared-A Protection  
**Sports**  
Gel  
S P F  
**50**  
UVB+UVA PA++++

Infrared-A Protection | long-lasting\*

**ultrasun**  
Professional Protection

S P F  
**50**  
UVB+UVA PA++++

**High protection**  
UVA absorbance: 95%

**Triple protection:**  
UVA & UVB & Infrared-A

Recommended by

**Patrick Lange**  
Triathlon World Champion  
2017 & 2018



**Sports**  
Gel

Transparent  
sun protection  
with antioxidants

- water resistant
- fragrance-free
- helps to prevent sun allergies\*\*

ADVANCED SWISS SUNCARE  
Made in Switzerland  
e 200 ml

**GB** Fast-absorbing, non-greasy, non sticky, transparent UVA and UVB (SPF50) sun protection gel with GSP for infrared protection – ideal for active sports people, quick and easy to apply. Flammable – contains alcohol.

\*: Always read instructions provided inside box. Do not exceed your recommended sun allowance.

**DE** Schnell absorbierendes, nicht fettendes, nicht klebriges, transparentes UVA und UVB (SPF50) Sonnenschutz Gel mit GSP für Infrarot-Schutz – ideal für aktive SportlerInnen, schnell und einfach auftragbar. Entzündbar – enthält Alkohol.

**FR** Gel solaire protection UVA et UVB (SPF 50) transparent à absorption rapide, non gras et non collant avec GSP pour une protection contre les infrarouges. Idéal pour les personnes actives et sportives, rapide et facile à appliquer. Inflammable - contient de l'alcool.

**IT** Gel solare con protezione UVA e UVB (SPF50), trasparente, si assorbe velocemente, non unge, non appiccica con protezione GSP dai raggi infrarossi – ideale per chi pratica sport, di applicazione facile e rapida. Inflammabile – con alcol.

**NL** Snel absorberende, niet-vette, niet-kleverige, transparante UVA- en UVB-sonnebeschermingsgel (SPF50) met GSP voor infraroodbescherming. Ideaal voor actieve sporters, snel en eenvoudig aan te brengen. Brandbaar. Bevat alcohol.

**FI** Nopeasti imeytyvä, väritön UVA- ja UVB-aurinkosuojageeli (SPF50), ei jätä ihoa rasvaiseksi tai tahmeaksi. Sisältää infrapunasäteilyltä suojaavaa GSP:tä. Ihanteellinen aktiivisille urheilijoille, nopea ja helppo levittää. Syttyvä, sisältää alkoholia.

**SV** Snabbabsorberande, oljefri, non-sticky, transparent UVA och UVB (SPF50) solskyddsgel med GSP för infrarött skydd – perfekt för aktiva sportmännskor, enkel och snabb att applicera. Brandfarlig - innehåller alkohol.

**Ingredients:** Alcohol, C12-15 Alkyl Benzoate, Phenoxethyl Caprylate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Diethylhexyl Butamido Triazone, Ethylhexyl Salicylate, Diisopropyl Adipate, Ethylhexyl Triazone, Octyldecanol, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Dibutyl Adipate, Alcohol Denat., VA/Butyl Maltate/Isobornyl Acrylate Copolymer, Vitis Vinifera Seed Extract, Glycerin, Hydroxypropyl Methylcellulose, Aqua, Tocopherol Acetate, 2,6-Dimethyl-7-Octen-2-Ol, Lecithin, Sodium Chloride, Caprylic/Capric Triglyceride, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopherol, Ubiquinone.

www.ultrasun.com  
Ultrasun AG, 8045 Zurich, Switzerland  
Ultrasun UK Ltd, Redhill, GB-Surrey RH1 2NB, UK  
Lalique Beauty Distribution SARL, 77760 Ury, France

Infrarot-A-Schutz | Protection infrarouge A

**ultrasun**  
Professional Protection

S P F  
**50**  
UVB+UVA PA++++

**Hoher Schutz**  
Haute protection

**3fach-Schutz**  
Triple protection | UVA, UVB, IR-A

Empfohlen von  
Recommandé par

**Patrick Lange**  
Triathlon World Champion  
2017 & 2018



**Sports**  
Gel

Transparentes  
Sonnenschutz-Gel  
mit Antioxidantien

Gel solaire  
transparent  
avec antioxydants

- wasserfest | résistant à l'eau
- ohne Parfum | sans parfum
- ideal bei Sonnenallergie\*\*, nicht fettend  
idéale contre les allergies solaires\*\*, non gras

ADVANCED SWISS SUNCARE  
Made in Switzerland  
e 200 ml

**KO** 흡수가 빠르고 오일기와 끈적임이 없는 UVA 및 UVB (SPF50) 투명 자외선 차단용 젤(적외선 차단을 위한 GSP 함유) - 활동적인 스포츠인들에게 이상적이며 바르기가 간편합니다. 인화성(알코올 함유)

**JA** すばやく浸透し、油っぽくなく、べたつかない透明 UVA と UVB (SPF50) 日焼け止めジェル GSP で赤外線から肌を保護。一激しいスポーツをする人に最適で、素早く簡単に塗れます。可燃性—アルコールを含む。

**AR** جيل الحماية من أشعة الشمس يعمل وقاية من أشعة الشمس (SPF50) للوقاية من أشعة الشمس فوق البنفسجية "أ" (UVA) وأشعة الشمس فوق البنفسجية "ب" (UVB) سريع الامتصاص، وغير دهني، وغير لزج، وشفاف، ومزود بمادة البروسيانيدين المستخلصة من بذور العنب (GSP) للوقاية من أشعة الشمس تحت الحمراء - مناسب جدًا للرياضيين النشيطين، كما أنه سريع وسهل الاستخدام. سريع الاشتعال - لاحتوائه على الكحول.

\*\* Radical Skin Protection Studies, Gematria Test Lab GmbH, Berlin, May 2019

MIX  
Karton  
FSC FSC® C012270



**AR** توخ الحذر تحت أشعة الشمس: قم دائماً بوضع طبقة وفيرة من دهان الحماية من أشعة الشمس قبل التعرض لأشعة الشمس بفترة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة. إذا تم وضعه قبل التعرض لأشعة الشمس بوقت أقل من المذكور، فسينخفض تأثير الحماية بشكل كبير. ومع ذلك فإن دهان الحماية من أشعة الشمس يعمل وقاية من أشعة الشمس (SPF) مرتفع لا يوفر الحماية الكاملة. لا تعرض الرضع والأطفال الصغار لأشعة الشمس المباشرة، وقم بوضع واقي شمسي يعمل وقاية من أشعة الشمس عالي (SPF 30+) لحمايتهم وألبسهم ملابس ملائمة تقيهم من أشعة الشمس. تجنب شمس الظهيرة. يُعد وضع الواقي الشمسي مرة واحدة كافيًا بشكل عام، ولكن ينبغي أن يُرَاعَى وضع الواقي الشمسي مرة أخرى بعد التعرق المفرط، أو السباحة، أو التجفيف بمنشفة. تجنب ملامسة المنتج للملابس مباشرة لأنه قد يتسبب في حدوث بقع. تجنب ملامسة المنتج للعينين.

#### Ultrason Sun Account

Maximum recommended sun exposure time per day based on your skin type, sun intensity and sufficient application:

Ultrason Sun Account		SPF 50			
		Skin's natural self protection time	Calculated maximum exposure time	Safety reduction*	Maximum recommended exposure time
<b>Phototype 1</b> Light / Pale White	Normal sun	10 min	8h 20 min	-30%	5h 50 min
	Extreme sun	3 min	2h 30 min		1h 45 min
<b>Phototype 2</b> White / Fair	Normal sun	20 min	10 h+	-30%	7 h+
	Extreme sun	10 min	8h 20 min		5h 50 min
<b>Phototype 3</b> Medium / White to Olive	Normal sun	30 min	10 h+	-30%	7 h+
	Extreme sun	20 min	10 h+		7 h+
<b>Phototype 4</b> Olive / Medium Brown	Normal sun	45 min	10 h+	-30%	7 h+
	Extreme sun	30 min	10 h+		7 h+
<b>Phototype 5</b> Brown / Dark Brown	Normal sun	60 min	10 h+	-30%	7 h+
	Extreme sun	45 min	10 h+		7 h+
<b>Phototype 6</b> Black / Very Dark Brown to Black	Normal sun	90 min	10 h+	-30%	7 h+
	Extreme sun	60 min	10 h+		7 h+

\*Repeated activity such as swimming, perspiring or towel drying can reduce your protection time. Please use this table as a guide only.

**GB** Always apply sun protection generously, 15 to 30 minutes before sun exposure. Any less, radically reduces the protection effect. Even sun protection with high SPF does not grant full protection. Keep babies and young children out of direct sunlight and protect them with a high sun protection factor (≥ SPF30) and appropriate clothing. Avoid midday sun. Generally one application is sufficient but consider another application after extensive sweating, swimming or towel drying. Avoid contact with clothing as direct contact may stain. Avoid contact with the eyes.

**DE** Sonnenschutz immer 15 bis 30 Minuten vor der Sonneneinstrahlung großzügig auftragen. Zu gering aufgetragene Mengen reduzieren die Schutzleistung markant. Auch Sonnenschutzprodukte mit hohem Lichtschutzfaktor bieten keinen vollständigen Schutz. Babys und Kleinkinder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und gleichzeitig schützende Kleidung sowie Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (≥ SPF30) verwenden. Intensive Mittagssonne meiden. Eine Anwendung kann gemäß Ihrem persönlichen Sonnenkonto reichen. Wiederholt auftragen, insbesondere nach intensivem Schwitzen, dem Aufenthalt im Wasser und Abtrocknen. Kontakt mit der Kleidung vermeiden – kann abfärben. Augenkontakt vermeiden.

**FR** Toujours appliquer une couche généreuse de protection solaire 15 à 30 minutes avant l'exposition. Une application insuffisante réduit considérablement l'effet protecteur. Attention, même les crèmes solaires à indice de protection élevé ne garantissent pas une protection totale. Les bébés et les jeunes enfants ne doivent pas être exposés directement au soleil. Il est important de les protéger avec un indice de protection solaire élevé (≥ SPF30) et des vêtements adaptés. Éviter le soleil de midi. Une seule application est généralement suffisante mais une nouvelle application est conseillée en cas de transpiration abondante, après un bain ou après séchage avec une

serviette. Éviter le contact direct avec les vêtements, risque de taches. Éviter le contact avec les yeux.

**IT** Applicare la protezione solare abbondantemente 15-30 minuti prima dell'esposizione al sole. Piccole quantità di prodotto riducono significativamente il livello di protezione. Anche le creme solari con indice di protezione molto alto non assicurano una protezione completa. Evitare di esporre neonati e bambini alla luce diretta del sole e proteggerli con un fattore di protezione solare elevato (≥ SPF30) e con un abbigliamento adeguato. Evitare il sole di mezzogiorno. Di norma un'applicazione è sufficiente, si consiglia tuttavia di applicare il prodotto specialmente in caso di elevata traspirazione, bagno in mare o in piscina o dopo l'uso dell'asciugamano. Evitare il contatto con i vestiti: il prodotto potrebbe macchiare. Evitare il contatto con gli occhi.

**NL** UV-bescherming altijd rijkelijk aanbrengen, 15 tot 30 minuten voor blootstelling aan de zon. Minder grondig toepassen verlaagt de beschermende werking. Zelfs zonnecrèmes met hoge SPF bieden geen volledige bescherming. Baby's en jonge kinderen niet blootstellen aan direct zonlicht en ze beschermen met een hoge zonnefactor (≥ SPF30) en geschikte kleding. Vermijd de middagzon. Doorgaans is een keer aanbrengen voldoende maar breng nogmaals aan na veel transpireren, zwemmen of afdrogen met de handdoek. Vermijd contact met kleding aangezien direct contact vlekken kan veroorzaken. Vermijd contact met de ogen.

**FI** Levitä a urinkasuojaa aina runsaasti 15–30 minuuttia ennen auringossa oleskelua. Pienempi määrä vähentää merkittävästi suojavaikutusta. Korkealla suojakertoimellaan varustetut voiteet eivät suojaa auringolta täysin. Älä altista vauvoja ja pieniä lapsia suojasuoralle auringonvalolle ja suojaa heidät korkealla suojakertoimella (≥ SPF 30) sekä sopivalla vaateuksella. Vältä keskipäivän aurinkoa. Yleensä yksi levitys riittää, mutta lisää tuotetta voimakkaan hikoilun, uinnin tai ihon kuivaamisen jälkeen. Vältä tuolteen joutumista suoraan vaatteille, joita ne eivät likaannu. Vältä tuolteen joutumista silmiin.

#### Application recommendation

Apply the following quantity of sun protection (fingers' length):

**FRONT**  
Head ▶ 1 finger length  
Arms ▶ 1 finger length  
All other parts ▶ 2 finger lengths

**BACK**  
Neck & ears ▶ 1 finger length  
Arms ▶ 1 finger length  
All other parts ▶ 2 finger lengths



**SV** Applicera a II tid rikligt med solskyddsmedel 15 till 30 minuter innan exponering för solen. Vid otillräcklig mängd blir den skyddande effekten starkt reducerad. Inte ens solkrämer med hög SPF-faktor garanterar ett fullgott skydd. Håll spädbarn och små barn borta från direkt solljus och skydda dem med en hög solskydds-faktor (≥ SPF30) och lämplig klädsel. Undvik att sola mitt på dagen. Normalt räcker en applicering men överväg ytterligare appliceringar om du har svettats, simmat eller torkat dig mycket. Undvik kontakt med kläder eftersom direktkontakt kan ge fläckar. Undvik kontakt med ögonen.

**KO** 태양에 노출하기 15 내지 30 분 전에 항상 자외선 차단제를 충분히 바르십시오. 적게 바르면 차단 효과가 급격히 떨어집니다. SPF가 높은 자외선 차단제도 피부를 완전히 보호하지 못합니다. 아기와 어린이는 직사 광선을 쬐지 않도록 하고 자외선 차단 지수가 높은 (SPF30 이상) 제품으로 보호하고 적절한 의복을 입하십시오. 한낮의 태양은 피하십시오. 일반적으로 한 번 바르는 것으로 충분하나 땀을 많이 흘리거나 수영 또는 타월로 닦은 후에는 다시 바르는 것이 좋습니다. 옷에 직접 닿으면 얼룩이 질 수 있으므로 옷에 닿지 않도록 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오.

**JA** 日光を浴びる15~30分前に必ず日焼け止めをたっぷり塗ってください。量が少ないと保護効果が著しく低下します。SPF値の高い日焼け止めだけでは十分な保護効果は得られません。乳幼児やお子様は直射日光を避けて日焼け止め(SPF30以上)を塗り、適した衣服を着せてください。真昼の太陽は避けてください。通常は1回の塗布で十分ですが汗をかいたり、泳いだり、タオルで拭いたりしたあとは再度塗るよう心がけてください。衣服に直接付着するとシミになる場合があります。目に直接入れないでください。